



# 37 ÉME IJTEMA NATIONAL

MAJLIS  
KHUDDAM-UL-AHMADIYYA

**F R A N C E**

**15 AU 17 AOÛT 2025**

2 ROUTE DE LA CROIX BLANCHE, 60590 TRIE-CHÂTEAU

یہ جو ذیلی تنظیموں کے اجتماعات ہیں اس لئے منعقد کئے جاتے ہیں تاکہ مختلف پروگراموں میں حصہ لے کر خدام اپنے دینی، علمی، روحانی معیاروں کو بہتر کر سکیں اور بہتر کرنے کی طرف توجہ دے سکیں اور ساتھ ہی مختلف کھیلوں کے پروگرام ترتیب دے کر اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جسم کا جو حق ہے وہ بھی ادا کیا جائے کیونکہ صحت مند جسم ہو گا تو زندگی کا جو اصل مقصد ہے یعنی عبادت، اس کا بھی حق ادا ہو سکتا ہے۔ اور پھر کھیلوں کے پروگراموں سے شائقین کی بھی اور پلیئرز (PLAYERS) کی بھی ذہنی تفریح بھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحت مند تفریح صحت مند جسم کے لئے ہے اور صحت مند جسم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے لئے ضروری ہے۔ یہ عبادتیں ہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل نے تمہیں باقی تعلیمات پر عمل کرنے کے قابل بنانا ہے۔

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

Ces Ijtema'at locaux sont organisés pour que les Khuddam, en participant à divers programmes, puissent élever leurs standards religieux, intellectuels et spirituels, et qu'ils puissent également se concentrer sur cette amélioration. Parallèlement, en mettant en place différents programmes sportifs, on s'assure aussi de respecter le droit du corps, car un corps en bonne santé permet de réaliser le véritable but de la vie, à savoir l'adoration. De surcroît, ces programmes sportifs procurent également un divertissement mental aux spectateurs ainsi qu'aux joueurs. Gardez toujours en mémoire qu'un divertissement sain est essentiel pour un corps sain, et qu'un corps sain est indispensable pour accomplir les commandements d'Allah. Ce sont ces actes d'adoration qui attirent la grâce d'Allah, et c'est cette grâce d'Allah qui vous rendra capables de mettre en pratique Ses autres enseignements.

Sa Sainteté Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

# VENDREDI 15 AOÛT 2025



ITEMA  
NATIONAL  
MAJLIS  
KHUDDAM  
UL  
AHMADIYYA

FRANCE

2025

11H30	Inspection	معائنہ اجتماع
12H00	Déjeuner	کھانا
13H30	Prière du Vendredi & Asr	نماز جمعہ و عصر
14H00	Sermon du Calife <sup>aba</sup>	خطبہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز
15H15	Lever des drapeaux	پرچم کشائی
15H30	Session d'ouverture	افتتاحی اجلاس
16H15	Compétitions religieuses Tilawat, examen écrit et jeux d'observation	علمی مقابلہ جات تلاوت، تحریری امتحان مشاہدہ معائنہ
17H25	Pause thé	وقفہ چائے
17H30	Compétitions sportives Frisbee, Course 100m, 1000m, relais, course en sac, 3 pieds et avec cuillère	ورزشی مقابلہ جات Frisbee، دوڑ 100 میٹر، 1000 میٹر، ریلے، بوری، 3 ٹانگ اور نیچے دوڑ
19H45	Dîner	کھانا
20H30	Séminaire étudiant	سیمینار طلباء
21H30	Prières de Maghrib & Isha	نماز مغرب و عشاء
22H00	Compétition sportives intérieur Ping Pong, bras de fer et clé de bras	ورزشی مقابلہ جات اندرون پنگ پونگ، کلائی پکڑنا، بیچہ آزمائی

# SAMEDI 16 AOÛT 2025

04H45	Prière de Tahajjud	نماز تہجد
05H30	Prière de Fajr, dars et tilawat	نماز فجر، درس و تلاوت
08H00	Petit déjeuner	ناشتہ
08H45	Compétitions sportives Tir à l'arc, saut en longueur, lancer de poids, épreuve de force Cricket et foot (final de foot y compris)	ورزشی مقابلہ جات تیر اندازی، لمبی چلانگ، گولہ پھینکانا۔ طاقت آزمائی کرکٹ اور فٹ بال
14H00	Déjeuner	کھانا
14H45	Prières de Zohr & Asr	نماز ظہر و عصر
15H15	Compétitions religieuses Discours urdu, français et Discours improvisé	علمی مقابلہ جات تقریر اردو۔ تقریر فرنگی۔ تقریر فی الہدییہ
17H00	Compétitions sportives Volleyball et épreuve de force	ورزشی مقابلہ جات والی بال۔ طاقت آزمائی
19H30	Compétition religieuses Quiz et Kasooti	علمی مقابلہ جات کوئز۔ کسوٹی
20H45	Dîner	کھانا
21H30	Prières de Maghrib & Isha	نماز مغرب و عشاء
22H00	Discussion avec les Khuddams	خدام کارنر



IJTEMA  
NATIONAL  
MAJLIS  
KHUDDAM  
UL  
AHMADIYYA

FRANCE

2025

# DIMANCHE 17 AOÛT 2025

04H45	Prière de Tahajjud	نماز تهجد
05H30	Prière de Fajr, dars et tilawat	نماز فجر، درس و تلاوت
08H00	Petit déjeuner	ناشسته
08H45	Compétition sportive Tir à la corde, vélo à contre vitesse, Cricket	ورزشی مقابلہ جات رسہ کشی، سلوسائیکل، کرکٹ
11H30	Compétitions religieuses Poème, Transmission de message (kassoti si reporté)	علمی مقابلہ جات نظم۔ پیغام رسانی، کسوٹی
13H00	Déjeuner	کھانا
14H30	Prières de Zohr & Asr	نماز ظہر و عصر
15H00	Session de clôture	اختتامی اجلاس
	Bonne route	اللہ حافظ



ITEMA  
NATIONAL  
MAJLIS  
KHUDDAM  
UL  
AHMADIYYA

FRANCE

2025

PRIÈRES PRESCRITES PAR HUZOOR-E-ANWAR

SERMON DU VENDREDI 23 AOÛT 2024

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی دعائوں کی تحریک

بروز جمعۃ المبارک 23 اگست 2024

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ۔

'SAINT EST ALLAH ET DIGNE DE TOUTE LOUANGE, SAINT EST ALLAH, LE GRAND. Ô ALLAH, RÉPANDS TES BÉNÉDICTIONS SUR MUHAMMAD ET SUR LA DESCENDANCE DE MUHAMMAD.'

ہر احمدی کو روزانہ کم از کم 200 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

CHAQUE AHMADĪ DEVRAIT RÉCITER CELA AU MOINS 200 FOIS PAR JOUR.

بچوں کو بھی یہ دعا 25 تا 30 بار روز پڑھوائیں۔ روزانہ صبح و شام بچوں سے یہ دعا پڑھوائیں۔

LES ENFANTS DEVRAIENT LE RÉCITER 25 À 30 FOIS CHAQUE JOUR, MATIN ET SOIR. LES TRÈS JEUNES ENFANTS DEVRAIENT LE RÉCITER AVEC LEURS PARENTS 15 FOIS PAR JOUR.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔

'JE DEMANDE PARDON À ALLAH, MON SEIGNEUR, POUR TOUS MES PÉCHÉS ET JE ME TOURNE VERS LUI.'

ہر احمدی کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

TOUS LES AHMADIS DEVRAIENT RÉCITER CETTE PRIÈRE 100 FOIS PAR JOUR.

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ خَادِمَكَ

رَبِّ فَأَحْفَظْنِي وَأَنْصُرْنِي وَأَرْحَمْنِي۔

'Ô MON SEIGNEUR ! TOUT TE SERT.

MON SEIGNEUR ! PROTÈGE-MOI, AIDE-MOI ET FAIS-MOI MISÉRICORDE.'

ہر احمدی کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

TOUS LES AHMADIS DOIVENT RÉCITER CETTE PRIÈRE 100 FOIS PAR JOUR.